

## 21258-ایام تشریق کی راتیں منی میں بسر نہ کرنا

### سوال

میری گزارش ہے کہ منی میں ایام تشریق کی راتیں بسر نہ کرنے کا حکم بیان فرمائیں، اگر جواب یہ ہے کہ بسر نہ کرنے والے پر دم لازم آتا ہے تو کیا ہر رات کے بدلے ایک بکری ذبح کی جائے گی یا ایک ہی کافی ہے؟

### پسندیدہ جواب

جمہور فقہاء کرام کے ہاں ایام تشریق کی راتیں منی میں بسر کرنا واجب ہیں، بغیر کسی عذر کے منی میں رات بسر نہ کرنے والے پر دم لازم آتا ہے، اور رات بسر کرنے میں جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ رات کا اکثر حصہ منی میں بسر کرنا واجب ہے۔

دیکھیں: الموسوعۃ الفقھیۃ جلد (17) صفحہ (58)

منی میں ایام تشریق کی راتیں بسر نہ کرنے میں تفصیل ہے:

پہلی حالت: کسی عذر کی بنا پر منی میں رات بسر نہ کی جائے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا: جو شخص منی میں ایام تشریق کی راتیں بسر کرنے کی استطاعت نہ رکھے اس کا حکم کیا ہے؟

تو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا: اس کے ذمہ کچھ لازم نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿حَسْبُ اسْتَطَاعَتِ اللّٰهِ تَعَالٰی کَ تَقْوٰی اِخْتِیَارِ کَرُوۡۤا﴾۔ چاہے کسی مرض یا جگہ نہ ملنے یا کسی اور شرعی سبب کی بنا پر رات بسر نہ کی ہو مثلاً پانی پلانے والے اور چرواہے یا جو لوگ ان کے حکم میں آتے ہیں۔

دوسری حالت: اگر منی میں بغیر کسی عذر کے رات بسر نہ کی جائے۔

شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے:

جس نے بھی منی میں ایام تشریق کی راتیں بغیر کسی عذر شرعی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا بعض عذر والوں کو رخصت دینے کی دلالت کے ساتھ مشروع ہو مثلاً پانی پلانے والے لوگ یا چرواہے، اور رخصت عزیمت کے مقابلے میں ہوتی ہے اسی لیے منی میں ایام تشریق کی راتیں بسر کرنا علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق حج کے واجبات میں شامل کی جاتی ہیں، لہذا جس نے بھی بغیر کسی شرعی عذر کے منی میں رات بسر نہ کی اس پر دم لازم آتا ہے۔

اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے (جس نے بھی کوئی عمل ترک کر دیا یا بھول گیا اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے) منی میں ایام تشریق کی راتیں بسر نہ کرنے پر ایک دم ہی کافی ہوگا۔

دیکھیں: مجموع فتاویٰ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ (5/182)

اور یہ جانور مکہ میں ذبح کر کے وہاں کے فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے گا.

الجبیۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء, دیکھیں فتاویٰ الجبۃ الدائمۃ (281/11).

واللہ اعلم.